

MISIL/MI/2021

February 19, 2021

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.
By Courier & PUCAR

PUBLICATION OF NOTICE TO SHAREHOLDERS

Dear Sir,

In accordance with the requirements of the applicable provisions of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange Limited, please find attached herewith the copy of notice to shareholders, prior to its being published in newspapers. **(Annexure-A).**

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

for **MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED**



MUHAMMAD FAHAD HAFEEZ

(Company Secretary)



CC: **The Director / HOD**

Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities & Exchange Commission of Pakistan
Islamabad.

16% فیصد رائٹ شیئرز

حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹران نے 19 فروری 2021 کو منعقد کردہ اجلاس میں 16% فیصد رائٹ شیئرز جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ رائٹ شیئرز کا تناسب موجودہ 10 روپے مالیت کے 100 عمومی شیئرز کے پیچھے مزید 16 رائٹ شیئرز کے حساب سے ہے۔ یہ رائٹ شیئرز 68 روپے فی شیئر (بشمول 58 روپے پریمیم فی شیئر) کے حساب سے آخر کیے جارہے ہیں۔

30% فیصد عبوری نقد ڈیویڈنڈ

حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹران نے 19 فروری 2021 کو منعقد کردہ اجلاس میں عبوری نقد ڈیویڈنڈ 3 روپے فی شیئر یعنی 30 فیصد کی منظوری دی ہے۔

رائٹ شیئرز اور عبوری نقد ڈیویڈنڈ کے تعین کے لئے بندش کتاب

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتاب میں 14 مارچ 2021 سے 21 مارچ 2021 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ وہ مادی منتقلیاں/سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) ٹرانزیکشن آئی ڈیز، جو کہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار، میسرز THK ایبوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل سٹریٹ 2، ڈی۔ ایچ۔ اے۔ VII کراچی 12 مارچ 2021 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہوں گی وہ عبوری ڈیویڈنڈ کی ادائیگی اور رائٹ شیئرز کے حقدار کے تعین کیلئے بروقت اور قابل قبول تصور ہوں گی۔

نوٹس:

a۔ بینک اکاؤنٹ کی درست تفصیلات

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی تفصیلات فراہم/اپ ڈیٹ کریں۔ فونیکل حصص یافتگان کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو اور اگر شیئرز سی ڈی ایٹس میں ہیں تو متعلقہ پارٹنیشنٹ سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر سروسز کو آگاہ کریں۔ براہ کرم یہ نوٹ کر لیں کہ حصص یافتگان کی طرف سے درست آئی بی اے این فراہم نہ کرنے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 اور اس سے متعلقہ دفعات کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہوگی۔

b۔ شناخت کی درست تفصیلات

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر کمپنی کے رجسٹرار کو شناخت کیلئے (سی این آئی سی/ایٹس این آئی سی یا این ٹی این) کی کاپی (کارپوریٹ اداروں کی صورت میں) فراہم/اپ ڈیٹ کریں براہ کرم نوٹ کریں کہ کمپنیز ایکٹ کی متعلقہ دفعات اور اس کے متعلقہ قوانین و ضوابط کے تحت حصص یافتگان کی درست تفصیلات کی عدم فراہمی کی صورت میں کمپنی منافع کی ادائیگی روکنے کی مجاز ہوگی۔

c۔ پتے میں تبدیلی

حصص یافتگان جن کے پاس مادی حصص ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ حصص یافتگان جن کے حصص سی ڈی ایٹس میں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پتے متعلقہ پارتنیشنٹس اور سی ڈی سی اکاؤنٹس سروسز میں اپ ڈیٹ کروائیں۔

d۔ ووٹرز رجسٹریشن

آئیکس آرڈیننس، 2001 کی شق 150 کے تحت حصص کی ڈیویڈنڈ آمدنی پر ووٹرز رجسٹریشن کی کٹوتی لازمی ہوگی۔ ڈیویڈنڈ پر ووٹرز رجسٹریشن کی کٹوتی 15 فیصد ایکٹو اور 30 فیصد نان ایکٹو بنیاد پر ہوگی۔ ایکٹو سے مراد وہ شخص جس کا نام ایف بی آر (<http://www.fbr.gov.pk>) کے ای پورٹل پر موجود ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہوگا اور نان ایکٹو سے مراد وہ شخص جس کا نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود نہیں ہوگا۔ تمام حصص یافتگان جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ میں درج نہیں ہیں باوجود اس کے کہ وہ فائلر ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ تصدیق کر لیں کہ ان کا نام نقد منافع جات کی تقسیم کی تاریخ سے قبل ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ میں درج ہو چکا ہے، بصورت دیگر ان کے منافع جات پر آئیکس 15% کی بجائے 30% کے حساب سے منہا کیا جائے گا۔ آئیکس کے منہا سے چھوٹ کے متلاشی حصص یافتگان یا کم شرح پر منہا کے اہل حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ کارآمد ٹیکس سرٹیفکیٹ یا ضروری دستاویزی شہادت جو بھی قابل اطلاق ہوں جمع کروائیں۔

e۔ زکوٰۃ ڈیکلریشن

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے زکوٰۃ ڈیکلریشن متعلقہ فارمیٹ پر جمع کروائیں۔

لاہور: 20 فروری 2021

بحکم بورڈ
محمد فہد حفیظ
کمپنی سیکریٹری

NOTICE OF ISSUE OF RIGHT SHARES, INTERIM CASH DIVIDEND AND BOOK CLOSURE

16% RIGHT SHARES

Shareholders are notified that the Board of Directors in their meeting held on February 19, 2021 has approved to issue 16% Right Shares in ratio of 16 right shares for every 100 existing ordinary shares of Rs. 10/- each at value of Rs. 68/- per share (inclusive of premium of Rs. 58/- per share).

30% INTERIM CASH DIVIDEND

Shareholders are notified that the Board of Directors in their meeting held on February 19, 2021 has approved the payment of an Interim Cash Dividend @ Rs. 3/- per share i.e. 30%.

BOOK CLOSURE TO DETERMINE ENTITLEMENT FOR RIGHT SHARES AND INTERIM CASH DIVIDEND

The Share transfer books of the Company shall remain closed from March 14, 2021 to March 21, 2021 (both days inclusive).

Physical transfers / Central Depository System (CDS) Transaction IDs received in order by the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Private) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A., Phase VII, Karachi, up to the close of business on March 12, 2021, will be considered in time, for the entitlement of right shares and payment of interim cash dividend.

Notes:

a) Valid bank account details

Shareholders are requested to promptly provide/update their correct International Bank Account Number ("IBAN") details. In case of shares held in physical form to the Company's Share Registrar and in case shares are held in CDS then with relevant Participant/CDC account services. Please note that in case of failure to provide valid IBAN details by the shareholders, the Company will be constrained to withhold payment of dividend in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and related regulations.

b) Valid identification details

Shareholders are requested to promptly provide/update their valid Identification details (i.e. CNIC/SNIC or NTN (in case of corporate entities)) by submitting a copy of these to the Company's Share Registrar.

Please note that the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of valid identification details of the shareholders in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2017 and related regulations.

c) Change in address

Shareholders holding shares in physical form are requested to promptly notify Share Registrar of the Company of any change in their addresses. Shareholders maintaining their shares in CDS should have their address updated with their relevant Participant/CDC account services.

d) Withholding tax on dividend

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend is based on 'Active' and 'Non-Active' status of shareholders, whereby, rate of withholding tax is 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (<http://www.fbr.gov.pk/>) and 'Non-Active' means a person whose name is not appearing on the Active Taxpayers List. All the shareholders whose names are not entered into the Active Taxpayer List, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into the list before the date for payment of the cash dividend otherwise tax on their cash dividend will be deducted @30% instead @15%. Shareholders seeking exemption from deduction of income tax or those shareholders who are eligible for deduction at a reduced rate are requested to submit a valid tax certificate or necessary documentary evidence, as the case may be.

e) Zakat declarations

Shareholders are requested to submit declaration for zakat on the required format.

(By Order of the Board)

MUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LIMITED

Muhammad Fahad Hafeez

Company Secretary

Lahore: February 20, 2021